



## سوال

(118) باجماعت نماز میں آدمی کا اکیلے صف بنانا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز باجماعت میں اگر کوئی نمازی بعد میں آئے اور پہلی صف مکمل ہو تو وہ اکیلا دوسری صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی؟ اگر ہے تو اس حدیث کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرمائیں؟ (البوطاہر محمدی خانیوال)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ آدمی دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ اگر وہ آخر تک اسی طرح اکیلا رہے گا تو اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

"اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے"

(سنن ابن ماجہ، 1003، وصحیح البوصیری وابن خزیمہ، 1569، وابن حبان، 40، 2، مواردہ یہ المسلمین ص 88)

اگر کوئی شخص ایک امام و ایک مہتمدی والے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ (شہادت جون 2000ء)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ علمیہ](#)

جلد 1 - کتاب الصلاة - صفحہ 298



## محدث فتویٰ